

اے اہل کتاب اپنے دین (کی بات) میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح (یعنی) مریم کے بیٹے عیسیٰ (نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ) خدا کے رسول اور کلمہ (بشارت) تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھی تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور (یہ) نہ کہو (کہ خدا) تین (ہیں۔ اس اعتقاد سے) باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خدا ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ النساء ۱۷۱

اور (اس وقت کو بھی یاد رکھو) جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے مجھے کب شایاں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہو گا تو تجھ کو معلوم ہو گا (کیونکہ) جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا بے شک تو علام الغیوب ہے۔ المائدہ ۱۱۶

کر مس منانا اور کر مس کی خوشیوں میں شریک ہونا اور اس کفریہ شعائر پر عیسائیوں کو مبارکباد دینا بالافتق حرام ہے اور ایمان کے لئے خطرہ۔ اس فتویٰ پر پچھلے سال ملک بھر سے مختلف مسالک کے کبار علماء کی طرف سے تحریری تائید کی گئی۔ تفصیل دیکھنے کے لئے ویب سائٹ لنک درج ہے۔ خود بھی بیچیں اور <http://www.eeqaz.org/index.php/guidance/fatawa/139-pakulama-fatawa> دوسروں کو بھی بچائیں۔

[PostMid] Homework 08 [Array]

Note: All tasks required to be implemented using array.

Task 1:

Write a program to declare integer type array of size 10. Initialize randomly by 1-99. Print array values. Also calculate & print sum and average.

Task 2:

Write a program to declare character type array of size 10. Initialize randomly by 'A'-'Z'. Print array values. Find maximum and minimum letter.

Hint 1: use type casting like: `c[i]=(char)(Math.random()*26+'A')`

Hint 2: use char type variables for min, max and simply compare like numbers like `if (max<c[i])`

Task 3:

Write a program to input date from user. Input day, month & year separately. Using stored array of days in each month validate date entered with single if check.

Task 4:

Write a program to declare integer type array of size 10. Initialize randomly by 1-99. Print array values. Take input from user to find element inside array. Find and print index if element found in array otherwise print not found.

Task 5:

Write a program to declare two integer type arrays of size 5. Initialize randomly by 1-9. Print both arrays in separate lines. Print their sum and average. Also print which of them has greater sum.

Task 6:

Write a program to declare two integer type arrays having random size 3-8. Initialize both randomly by -50 to 50. Print both arrays in separate lines.

Task 7:

Write a program to declare integer type array of size 10. Initialize randomly by 10-15. Print array values. Find repetition of each number within next array values. Like if array has values:

12 13 15 12 14 15 15 14 11 12

Show output:

12 2

13 0

15 2

12 1

14 1

...

Task 8:

Write a program to declare integer type array of size 10. Initialize randomly by 10-20. Print array values. Print values less than equal 15 in separate lines and values greater than 15 in separate line.

----- **BEST of LUCK** -----